



جو لوگ کسی مجلس سے اٹھیں اور اس مجلس میں انہوں نے
اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، تو ان کا وہاں سے اٹھنا ایسا ہے، جیسے
وہ مرد گدھے کے پاس سے اٹھے ہوں اور یہ مجلس (روزِ
قیامت) ان کے لیے حسرت کا سامان ہو گی۔"

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: "جو لوگ کسی مجلس
سے اٹھیں اور اس مجلس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، تو ان کا وہاں سے اٹھنا ایسا ہے، جیسے وہ
مرد گدھے کے پاس سے اٹھے ہوں اور یہ مجلس (روزِ قیامت) ان کے لیے حسرت کا سامان ہو گی۔"
[صحیح] [اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کچھ لوگ کسی جگہ میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کیا بغیر
وہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، جو کسی مرد کوئے گندہ اور بدبودار
گدھے کے پاس جمع ہوئے ہوں وہاں کے وہ بات میں مشغول ہو گئے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ اس
طرح کی مجلس ان کے لیے قیامت کے دن حسرت، ندامت اور گھاٹ کا سودا ثابت ہوگی۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3910>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

